

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 230-233

طَلَّقَ + هَا	تَحِلُّ	يَتَرَاجَعُ + آ	يُقِيمَ + ا	يُبَيِّنُ + هَا
ط ل ق + ضمیر	ح ل ل	ر ج ع + ثنیہ	ق و م + ثنیہ	ب ی ن + ضمیر
وہ (مرد) طلاق دے	وہ حلال ہو سکتی	وہ دونوں رجوع کریں	وہ دونوں قائم کر لیں گے	وہ بیان کرتا ہے + ان کو
he divorces her	Lawful	They both return to each other	They both (will be able to) keep	He makes them clear

فَ + اُمْسِكُو + هُنَّ	سَرِّحُو + هُنَّ	تُمْسِكُو + هُنَّ	هُزُّوْا	يَعِظُ + كُمْ
حرف + م س ک + ضمیر	س ر ح + ضمیر	م س ک + ضمیر	ہ ز ا	و ع ظ + ضمیر
تو + روک لو + ان کو	رخصت کر دو + ان کو	تم روکے رکھو + ان کو	مذاق	وہ نصیحت کرتا ہے + تم کو
then retain them	release them	retain them	Jest	He instructs you

تَعْضُلُو + هُنَّ	تَرَاضَوْا	يُرْضِعُ + نَ	حَوْلَ + يَنْ	الرَّضَاعَةَ
ع ض ل + ضمیر	ر ض و	ر ض ع + ضمیر	ح و ل + ثنیہ ضمیر	ر ض ع
تو منع کرو + انہیں	وہ باہم رضا مند ہو جائیں	دودھ پلائیں	دو + سال	دودھ کی مدت
hinder them	they agree	shall suckle	Two Years	the suckling

فَصَالًا	تُضَارَّرُ	تُكَلَّفُ	كِسْوَتُ + هُنَّ	الْمَوْلُودِ
ف ص ل	ض ر ر	ک ل ف	ک س و + ضمیر	و ل د
دودھ چھڑانے کا باہم رضا مندی سے	نقصان پہنچایا جائے	تکلیف دیا جائے	لباس + ان کا	جس کا بچہ ہے
weaning	made to suffer	is burdened	their clothing	The Father

عَاتِي + تُمْ	سَلَّمَ + تُمْ	ت + سَتَرَضِعُوْا	تَشَاوِرِ	تَرَاضِ
ا ت ي + ضمیر	س ل م + ضمیر	ر ض ع + ضمیر	ش و ر	ر ض و
دیا + تم نے	سپرد کر دو + تم	تم + دودھ پلواؤ	باہم مشورے سے	باہم رضا مندی سے
You give	You Pay	ask another women to suckle	consultation	mutual consent